

امجد حیدر آبادی

(1886-1961)

امجد حسین نام اور امجد تخلص تھا۔ حیدر آباد میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ نظامیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پنجاب سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور کچھ عرصہ بنگلور میں مدرس رہے پھر حیدر آباد لوٹ آئے اور مدرسہ دارالعلوم میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ بعد میں صدر محاسب کے دفتر سے متعلق ہو گئے۔

امجد حیدر آبادی صوفیانہ مزاج رکھتے تھے۔ ان کے یہاں اخلاق اور تصوف کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ ان کی رباعیوں کے دو مجموعے ”رباعیات امجد“ اور ”ریاض امجد“ کے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں۔

رباعی

کس برق کی ہر آن چمک رہتی ہے
 کس گل کی دماغ میں مہک رہتی ہے
 ٹوٹا ہے ضرور کوئی کانٹا دل میں
 جب دیکھیے کچھ نہ کچھ کھٹک رہتی ہے

مشق

لفظ و معنی

برق	:	بجلی
آن	:	وقت، گھڑی
کھٹک	:	خلش، چیخن

غور کرنے کی بات

- برق کی چمک اور گل کی مہک دیر تک نہیں رہتی، لیکن اگر دل میں کوئی چیخن ہو تو اس کا اثر رہ رہ کر محسوس ہوتا رہتا ہے۔

سوالات

1. دل کی کھٹک سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
2. برق کی چمک اور گل کی مہک دیر تک کیوں نہیں رہتی؟

© NCERT
not to be republished

رباعی

خالق نے جنھیں دیا ہے زردیتے ہیں
 زر کیا ہے خدا کی رہ میں گھر دیتے ہیں
 اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجدہ
 سامان نہیں رکھتے ہیں سردیتے ہیں

مشق

لفظ و معنی

خالق : پیدا کرنے والا، خدا
 رکوع و سجدہ : نماز کے ارکان، مراد نماز

غور کرنے کی بات

- اس رباعی میں شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خالق کو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔

سوالات

1. خدا کی رہ میں گھر دینے کا کیا مطلب ہے؟
2. ”سامان نہیں رکھتے ہیں سردیتے ہیں“ کا مطلب لکھیے۔

© NCERT
not to be republished

رباعی

خود اپنی نگاہوں سے گرا جاتا ہوں
 قطرہ سا زمین میں سما جاتا ہوں
 احباب مرے ذن کی کیوں فکر میں ہیں
 میں شرم گنہ سے خود گڑا جاتا ہوں

مشق

لفظ و معنی

احباب	:	حب کی جمع، بہت سے دوست
نگاہوں سے گرجانا	:	(مجاورہ) بے عزت ہونا، بے وقعت ہو جانا
شرم سے گڑ جانا	:	(مجاورہ) بہت زیادہ شرمندہ ہونا، نادم ہونا

غور کرنے کی بات

- اس رباعی میں شاعر کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، جس کے باعث وہ حد درجہ شرمندہ ہے۔

سوالات

1. شرم گنہ سے گڑا جاتا ہوں، سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
2. انسان اپنی نگاہوں میں کب گر جاتا ہے؟

عملی کام

- نصاب میں شامل رباعیوں کے علاوہ اکبر الہ آبادی، میر انیس، فراق اور جوش کی رباعیات کا مطالعہ کیجیے۔
- رباعی کی تعریف بیان کیجیے۔
- تینوں رباعیات میں سے کسی ایک رباعی کی خصوصیات بیان کیجیے۔